

- جرمنی میں ترکوں کے مقابلے میں گردوں کا رد عمل خاصاً حوصلہ افزا ہے۔ ان بد تصیب لوگوں کے لیے ذمہ داری کا بوجھ محسوس کرنے والے ایسے کارکن بہان بیس جو ایک ایسی جگہ جہاں قانونی یا سیاسی پابندیوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ان پر شہادت دے سکیں؟
- 5۔ مغربی دنیا میں ایسے گرد عیساً یہاں کی تلاش اور تربیت جو گردستان کے لیے ریدیو پروگرام تیار اور نظر کر سکیں۔ فی الحال اس طبقے میں کچھ بھی نہیں کیا گیا۔
- 6۔ مستقبل میں مختلف گرد بولیوں میں پائیبل کے ترجیح کی اہمیت کے پیش نظر متعدد بولیوں کے بارے میں ممتاز ریسرچ ڈبلیوپنٹ اور سویڈن میں اٹھی ٹیوٹ برائے پائیبل ٹرائنسیشن کیا اس اہم منصوبے میں دلچسپی نہیں لے سکتے؟
- 7۔ مغربی یورپ میں استعمال کے لیے متعلقہ رسم الخط میں معیاری عیسائی لٹریچر کی تیاری۔ گردستان میں ایسے لٹریچر کی تیاری کو تجربہ کاری پر محدود کیا جاسکتا ہے۔ آخر کیا واجہ ہے کہ گردستان کے تمام لٹریچر میں کمیونٹیوں کی اچارہ داری ابھی تک برقرار ہے؟
- 8۔ گردستان میں وسیع پیمانے پر تقسیم کے لیے اچھی اور حساس محتافتی موسيقی کے ساتھ مقدس تعلیمات پر مشتمل کیمیٹیں کی تیاری۔ یہ کیمیٹیں اپنے اثرات کے اعتبار سے اتنی ہی موتور ثابت ہو سکتی ہیں جتنی کہ آیت اللہ خینی کی کیمیٹیں، جو انسوں نے فرانس میں اپنی جلاوطنی کے دوران میں تیار کر کے ایران روانہ کیں۔

"اشتعال دلانے بغير" وسطی ایشیا کے مسلمانوں کو عیسائی بنائے کا منصوبہ

مغربی یورپ اور سویٹ یونین کے عیسائی رہنماؤں نے حال ہی میں انگلینڈ کے کسی نامعلوم مقام پر اجلاس منعقد کیا۔ جس میں "معیج کی خاطر پورے سوتوں یونین تک کیسے پہنچا جائے" کے موضع پر غور و فکر کیا گیا۔ قابلِ توجہ امور میں زیادہ اہمیت کے حامل تین علاقوں، وسطی ایشیا، چنناز (کاکیشیا) اور سائبیریا تھے جہاں سب سے کم چرچ میں۔ عیسائی بن جانے والے ایک تاکہ نے (جو پہلے مسلمان تھا) عیسائی رہنماؤں کو مشورہ دیا کہ وہ ایسے طریقے اور ذرائع احتیار کریں کہ جن سے وسطی ایشیا کی مسلم آبادی میں "اشتعال دلانے بغير" تبدیلی مذہب کا عمل

چاری رہ سکے۔

سائیریا کے مقررین نے "اجلاس کو بتایا کہ بہت سے اہل ایمان کے پاس ان کی اپنی زبان میں پائیبل نہیں ہے اور بہت سے رو سیوں نے تحریر پائی جس اس زبانوں میں پائیبل کے ترجمے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ان زبانوں میں اب تک کوئی ترجمہ نہیں کیا گیا۔"

وائیکلف پائیبل ٹرانسیلیٹرز KLYCLIFFE BIBLE TRANSLATORS نے پائیبل سوسائٹی آف دی سوویٹ یونین کے تعاون سے پائیبل کے اصول ترجمہ کے سلسلے میں پہلے کورس کا اہتمام کیا ہے جو اگلے موسم گرامیں ما سکو میں منعقد ہو گا۔ رہنماؤں نے اپنے مشورہ میں اعلان کیا ہے کہ "سوویٹ معیشت کے مسائل کا واحد حل عیسائی اخلاقیات میں مضر ہے۔" (رپورٹ۔ کرچین سرالدھ)

ملاوی کے مسلمانوں میں مذہب کی تبدیلی

گیری بر مبیلو کی رپورٹ، جو پلس (PULSE) کے ایک حالیہ شمارے میں شائع ہوئی۔ اے ہم ذیل میں من و معن شائع کر رہے ہیں۔

"دنیا کے اکثر حصوں میں ان تحفظ مشتری کوشش کے باوجود بہت تھوڑے مسلمانوں نے سچ کی جانب رجوع کیا ہے۔ تاہم گذشتہ دو سال کے عرصے میں ملاوی (افریقہ) کے یاؤ (YAO) قبیلے کے کئی سو افراد نے عیسائیت قبل کی ہے۔ اس حریت انگیز تبدیلی میں کی مشتری خوش تحریری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ یاؤ لوگوں کی زندگی میں یہ انقلاب زبردست خدا کی مداخلت کا منکر معلوم ہوتا ہے۔"

مشتری ہر بڑی یورپ، جو اب پیری گریج ہو گئی ہے اسکوں 3۔ ہلز البرٹا میں پروفیسر، میں، 1985ء سے 1988ء کے عرصے کے دوران میں یاؤ قبیلے میں کام کرتے رہے۔ ان کی خدمات ملاوی یہیئت کونویشن نے حاصل کی تھیں۔ اور انہوں نے جنوبی افریقہ کی یہیئت یونین کی جانب سے ہاں اپنا مش پڑایا۔

بیس لاکھ یاؤ جن میں سے نصف ملاوی میں رہتے ہیں، غلاموں کی تجارت کرنے والوں کی نسل سے ہیں۔ انہوں نے استعماری دور میں برطانیہ کے ساتھ تعاون کے بجائے اسلام قبل کرنا پسند کیا۔ مذکورہ تجارت کے خاتمے کے ساتھ ہی یاؤ لوگوں کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا۔ انہوں